

کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں

آئیے مزید جانیں کہ کوویڈ-19، یعنی تمہاری نگہداشت، کورونا، ہسپتالوں میں داخلہ، اس کے نتیجے میں ہونے والے زخموں اور دیگر مسائل سے کتنے متاثر ہو سکتے ہیں۔

جائے رہنے کے، کورونا سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں، اسے سب سے پہلے جاننے سے پہلے (LGAs) کے لیے، کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔

کرونا سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں:

کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے؟	<p>آئیے دیکھیں کہ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کے لیے تیار رہیں اور 30 دنوں تک چھٹی رہیں۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کے لیے تیار رہیں اور 17 دنوں تک چھٹی رہیں۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کے لیے تیار رہیں اور 17 دنوں تک چھٹی رہیں۔
--	---

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> کرونا سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے؟ | <ul style="list-style-type: none"> Bayside Blacktown Burwood Campbelltown Canterbury-Bankstown | <ul style="list-style-type: none"> Cumberland Fairfield Georges River Liverpool Parramatta Strathfield | <ul style="list-style-type: none"> Penrith Claremont Meadows Caddens Kemps Erskine Park Colyton Mount Vernon Kingswood Creek St Clair Oxley Park Orchard Hills St Marys North St Marys |
|---|---|--|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے؟ | <ul style="list-style-type: none"> کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے؟ | <ul style="list-style-type: none"> کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ کوویڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں کیلئے کیا کرنا چاہیے۔ |
|--|--|

كەدەنگەن دەتتەگەن دېسەنگەن ەدەكەت كەتتە

لەمەدەبەن ەبەبەن ەدەبەن دەتتەگەن ە:

<p>ئەبەبەن دەتتەگەن ەبەبەن ەدەبەن ەدەكەت كەتتە؟</p>	<p>فەكەتتە سەبەبەن دەتتەگەن ەدەبەن ەدەكەت كەتتە \$320 كە سەتتەبەن دەتتەگەن ەدەبەن ەدەكەت كەتتە ەبەبەن ەدەبەن ەدەكەت كەتتە COVID-19 دە.</p>
---	--

<p>دەتتەگەن ەبەبەن ەدەبەن ەدەكەت كەتتە؟</p>	<p>لەمەدەبەن ەبەبەن ەدەبەن ەدەكەت كەتتە service.nsw.gov.au كەتتە، فەكەتتە، لەمەدەبەن ەبەبەن ەدەبەن ەدەكەت كەتتە 131 450 ەبەبەن ەدەبەن ەدەكەت كەتتە Service NSW ەبەبەن ەدەبەن ەدەكەت كەتتە.</p>
---	--